



سوال

(423) ایک آدمی جنابت کی حالت میں سو جاتا ہے اور اگر وہ اسی لمحے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک آدمی جنابت کی حالت میں سو جاتا ہے اور اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو جبکہ غسل جینے والوں کو نہیں پتہ یہ جنابت کی حالت میں ہے، اس کے متعلق کیا اللہ کا فیصلہ ہوگا، رات کو سونے سے پہلے اس نے دعائیں پڑھیں، گناہوں کی معافی مانگی؟ (حاضر رشید، لاہور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بر میت کو غسل دیا جاتا ہے، اگر فوت ہونے والا حالت جنابت میں غسل کیے بغیر فوت ہو گیا ہے تو جو غسل اس کو دیا جائے گا، اس سے غسل جنابت بھی ادا ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہذا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اور جو اس سے اس سلسلہ میں کوتاہی سرزد ہوئی تو جنازے میں اس کے لیے استغفار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ ان شاء اللہ العزیز الحکیم۔ ۲۹ ۸ ۱۴۲۳ھ

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 355

محدث فتویٰ